



سوال

(30) کسی حادثے کی وجہ سے دماغی توازن کھو بیٹھنے سے نماز ترک کرنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بعض لوگ گاڑی وغیرہ کے حادثے سے دوچار ہونے کے سبب چند دنوں کے لیے اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں، یا ان پر بے ہوشی طاری رہتی ہے، کیا ہوش و حواس درست ہوجانے کے بعد ایسے لوگوں پر فوت شدہ نمازوں کی قضا واجب ہے۔

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اگر یہ کیفیت تین دن یا اس سے کم مدت کے لیے ہو، تو نماز کی قضا واجب ہے، کیونکہ مذکورہ مدت کی بے ہوشی نیند کے مشابہ ہے اور نیند قضا سے مانع نہیں، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی ایک جماعت کے بارے میں منقول ہے کہ وہ تین دن سے کم مدت کے لیے بے ہوشی کے شکار ہوئے اور فوت شدہ نمازوں کی قضا کی۔

لیکن اگر یہ کیفیت تین دن سے زیادہ مدت کے لیے ہو تو فوت شدہ نمازوں کی قضا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”نین قسم کے لوگوں سے قلم کو روک لیا گیا ہے: سونے والا یہاں تک کہ بیدار ہو جائے، بچہ یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، اور پاگل یہاں تک کہ اس کے ہوش و حواس درست ہوجائیں۔“

اور مذکورہ مدت کی بے ہوشی جنون (پاگل پن) کے مشابہ ہے، کیونکہ دونوں صورتوں میں عقل زائل ہوتی ہے۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

ارکانِ اسلام سے متعلق اہم فتاویٰ

صفحہ: 88



محدث فتویٰ